



اسلام سر بلند رہتا ہے اور مغلوب نہیں ہوتا

عائذ بن عمرو مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اسلام سر بلند رہتا ہے اور مغلوب نہیں ہوتا"
[حسن] [اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے - اسے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں اسلام کا ایک عظیم ترین قاعدہ بتایا گیا ہے اور قاعدہ کے لیے اسلام کے لیے رفعت و سربلندی لکھی ہے اور اس کے مانند والے اس وقت تک سربلند اور اچھی حالت میں رہیں گے، جب تک اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اس طرح، سربلندی کے لیے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا شرط ہے حدیث کا یہ جملہ اگرچہ خبریہ ہے، لیکن اس امر کے معنی میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} (تم نہ کمزور پڑو اور نہ غمگین ہو) تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان دار ہو) یہ حدیث تمام احوال کے لیے عام ہے اور فقہاء نے اس سے بہت سے مسائل اور فروعات میں استدلال کیا ہے اس کی ایک مثال جزیرہ کا باب ہے، کیونکہ ذمی جب جزیرہ ادا کر کے ہمارے بیچ رہیں گے، تو انہیں کھلم کھلا ناقوس بجانے اور صلیب قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ان کی عمارتیں مسلمانوں کی عمارتوں سے اونچی بنائی جائیں گی اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، تو بچے دونوں میں سے جو بہتر دین کا حامل ہے وہ یعنی مسلمان کے تابع ہوگا اسی طرح کسی مسلمان عورت کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا علیٰ القیاس، ہر وہ حکم جس سے اسلام کی سر بلندی جھلکتی ہے، وہی مقدم ہوگا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/64633>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

